

240-جادو اور شیطانی اثر

سوال

میرا بھائی سفر سے واپس آنے کے بعد عجیب قسم کی باتیں کرنے لگا ہے اور وہ بعض غیب کی باتیں بنانے لگا ہے (یعنی کہ ہنوں جیسی باتیں کرنے لگا ہے) اور وہ کسی سے بات تک نہیں کرتا اور اس نے گھر سے باہر دوسال کی مدت گزاری ہے معاملہ یہاں تک جا پہچا ہے کہ وہ اپنی والدہ پر تھوکنا شروع ہو گیا ہے۔ ہمارا اعتقاد تھا کہ وہ نفسیاتی مریض ہے ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لیکر گئے لیکن کوئی بیماری نہ نکل سکی تواب ہمارا گمان ہے کہ اسے جادو یا پھر جن کا اثر ہے تو ہمیں اس کا کیسے پتہ چلے گا اور اس سے چھٹکارا پانے کا کیا طریقہ ہے؟ اس سبب سے والدہ بھی مریضہ ہو گئیں ہیں۔

پسندیدہ جواب

جادو اور جن چسٹے میں فرق کرنے کے لئے بعض تجربہ کار لوگوں نے علامات ذکر کی میں انہیں ذیل میں ذکر کیا جاتا ہے۔

شیطانی اثریا جن چمٹنے کی علامات

۱- قرآن اور اذان سننے سے اعراض اور شدید نفرت۔

2- جب اس پر (قرآن) پڑھا جائے تو اس پر بے ہوشی اور تنقیح طاری ہونا اور گرنا اور مرگی کے دورے پڑنا

1- کثرت سے ڈراونے خواب دیکھنا۔

2- تہائیں اور اکلے رہنا اور عجیب و غریب حرکات کرنا۔

3- بعض اوقات قرأت کے وقت اس شیطان کا بونا جو اس سے چھٹا ہوا ہے۔

4-پاگل یعنی کاشکار ہونا۔

جیسا کا ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

"وہ لوگ جو سود خور ہیں کھڑے ہوئے ہونے مگر اسی طرح جس طرح کہ وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھٹ کر خبھلی نہادے۔"

اور رہی جادو کی علامات تو اس سے مندرجہ ذیل عارضے لاحق ہوتے ہیں۔

1- جس بر جادو کیا گیا سے وہ اپنی بھوی کو با بھوی انسنے خاوند کو نایسنہ کرنا شروع کر دے۔

2- جس ارشاد ماری (تعالا) سے۔

"پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خاوند اور بیوی کے درمیان تفرقة ڈال دے"

3- اس کی گھر سے باہر اور گھر میں اور حالت ہوا اور یہ حالت مکمل طور مختلف ہو گھر سے باہر تو وہ اپنے اہل و عیال کا شوق رکھے لیکن جب گھر میں داخل ہو تو انہیں ناپسند کرنا شروع کر دے۔

4- اپنی بیوی کے ساتھ مجامعت کی طاقت نہ رکھے۔

5- حاملہ عورت کے حمل کو بار بار ساقٹ کرنے کے درپے رہے۔

6- کسی ظاہری سبب کے بغیر اپنے تصرفات میں تبدیلی۔

7- کلی طور پر کھانے کی طلب نہ رہے۔

8- وہ یہ سمجھے کہ اس نے کوئی کام کیا ہے حالانکہ کوئی کام نہیں کیا۔

9- کسی معین اور خاص شخص سے اچانک اور انہی اور حد سے بڑھی ہرئی محبت کا شکار ہونا۔

یہاں پر ایک چیز سے متنبہ رہنا چاہتے ہے کہ ابھی جو چیزیں ذکر کی گئیں ہیں ان میں سے اگر کوئی ایک کسی شخص میں پائی جائے تو اسکا یہ مطلب نہیں کہ اسے جادو یا شیطانی اثر ہے۔ بلکہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ اسے نفیاتی اور یا پھر عضلاتی طور پر لاحق ہو۔

علاج :

1- سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع اور اس پر توکل اور بھروسہ۔

2- شرعی دم اور شرعی تعویذ کرنا۔

اور ان میں سب سے اہم چیز معمودت ان سورہ فلق اور ان انس یہ وہ ہیں جس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کیا گیا توجہ ہے ان کا اور اسکے ساتھ سورت اخلاص۔ (قل ہو اللہ احده)۔ اور سورہ فاتحہ ملا کر دم کیا جائے تو ایک کامیاب دم ہے۔ اور اس جیسا کوئی دم نہیں۔

اور جادو کے علاج میں یہ بھی ممکن ہے کہ بیری کے سات سبز پتے لیکر کوٹنے کے بعد اسے برتن میں رکھیں اور ان پر اتنا پانی ڈالیں جو غسل کے لئے کافی ہو اس میں آپیا الحرسی اور سورہ الکافرون اور اخلاص اور الفرقہ اور ان انس اور جادو والی آیات (جن میں جادو کا ذکر ہے) پڑھے جو کہ سورہ البقرہ آیت 102۔ اور الاعراف آیت 117۔ 119 اور سورہ یونس آیت 79۔ 82 اور سورہ طہ آیت 69-65

اور اس پانی کو پہنے اور باقی سے غسل کرے اور اس کا بعض سلف نے تجربہ بھی کیا ہے جو کہ نفع مند ہے۔

3- جادو کو نکال کر اسے ضائع کرنا یعنی جس چیز پر جادو کیا گیا ہے اسے نکال کر ضائع کر دینا۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لبید بن اعصم یہودی کے جادو کے ساتھ کیا تھا۔

4- ان دواؤں کا استعمال کرنا جو کہ جائز ہیں مثلاً صحیح نہار منہ سات برلنی کھجوریں کھانی (مدینہ کی کھجور ہے) اور اگر یہ نہ ملیں تو کوئی بھی کھجور کھانی جا سکتی ہے۔

5- سنگی (پچھنے) لگوانا

6- اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا

بم اللہ تعالیٰ سے دعا گوہیں کہ وہ آپ کے بھائی کوشایابی سے نوازے اور اسکی اور آپ لوگوں کی تکلیف کو رفع کرے اور وہی شفاء دینے والا ہے اسکے علاوہ کوئی شفاء نہیں دے سکتا۔
واللہ اعلم۔